

Policy Number \_\_\_\_\_ Name of Policy Holder \_\_\_\_\_  
پالیسی نمبر \_\_\_\_\_ بیسہ دار کا نام \_\_\_\_\_

In accordance with the provisions and conditions of the above policy, I/We hereby request EFU Life to pay the Maturity of the above policy

میں / ہم ای ایف یو لائف سے درخواست کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا پالیسی کا قوائین کے مطابق مٹیورٹی ادا کی جائے

### Consent on Zakat Deduction

### رضامندی برائے کوئی زکوٰۃ

I/We wish to claim exemption of Zakat. The relevant sworn statement is attached.

میں / ہم چاہتے ہیں کہ سرینڈر کی کل رقم سے زکوٰۃ کی کوئی منہ کی جائے۔ زکوٰۃ سے استثنائی کا حلف نامہ منسلک ہے

I/We do not wish to claim exemption from deduction of Zakat. I/We understand that a sum of equivalent to 2.5% of amount payable must be deducted as zakat.

میں / ہم زکوٰۃ کی کوئی سے استثنائی کا حکم نہیں کرنا چاہتے / چاہتے ہیں۔ میں / ہم جانتے ہیں کہ سرینڈر کی کل رقم سے 2.5% زکوٰۃ کی مدد میں کاٹے جائیں گے۔

Note: Zakat declaration submitted during the month of Sha'ban will not be accepted for exemption.

نوٹ: شعبان کے مہینے میں جمع کیے جانے والا حلف نامہ زکوٰۃ سے استثنائی کیلئے ناپسندیدہ ہوگا۔

I/We hereby understand that the above policy will be matured on the Maturity Date mentioned in the policy documents and the amount payable will be based on the cash value prevailing on the maturity date

میں / ہم اس امر سے بخوبی آگاہ ہوں / ہیں کہ پالیسی کے اصل کاغذات میں دی گئی تاریخ کو ہی پالیسی مٹیور ہوگی اور پالیسی کی حتمی کیسٹس ویلیو مٹیورٹی کی تاریخ پر منحصر ہوگی۔

I/We agree that the payment made in my/our favor and sent by online will discharge the Company from all the liabilities and claims arising under this policy.

میں / ہم اس امر سے بخوبی آگاہ ہوں / ہیں کہ ادا کی جانے والی رقم بزرگ آئن لائن میں سے یا ہمارے نام سے ادا کی جائے گی جس کے بعد کمپنی مندرجہ بالا پالیسی میں کسی بھی قسم کی ادا کیسی کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔

I/We also hereby certify that I am/We are entitled to the proceeds of the policy; and that the policy has not in any way been assigned or transferred nor does any company or other person(s) has (have) any right to the policy.

میں / ہم اس امر کی تصدیق کرتا / کرتی / کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا پالیسی کے جملہ حقوق میرے / ہمارے پاس محفوظ ہیں اور پالیسی کے حقوق کسی کو بھی منتقل نہیں کئے گئے ہیں اور نہ ہی اس پالیسی پر کسی فرد (افراد) یا کمپنی کے کسی بھی قسم کے کوئی حقوق ہیں۔

I/We herewith return/have already returned the policy documents to EFU Life Assurance Ltd.

میں / ہم پالیسی کے کاغذات ای ایف یو لائف کو بھیج چکے ہیں۔

Contd.... page2

صفحہ نمبر ۲ پر جاری ہے

